

علمی و تحقیقی مجلہ فقہ اسلامی شعبان/رمضان ۱۴۲۷ھ ۲۳۲ پر 2006 سعوی عرب میں رمضان المبارک کی رویت ہلال کا ۲۲ سالہ ریکارڈ

ضیاء الدین ابوی

سعوی عرب کی شاہ سعوی یونیورسٹی ریاض کے شعبہ طبیعت و نجوم کے عالم جناب ایک کروی نے اپنے ملک کے نظامِ رویت ہلال کے بارے میں انگریزی میں ایک مقالہ بعنوان:

The Psychological Effect on Sighting of the New Moon

تجزیہ کیا جو "The Observatory" کے شمارہ ۱۴۲۶ (اگست ۲۰۰۳ء) کے سخنات ۲۲۲۶۲۱۹ پر شائع ہوا۔ اس مقالے میں انہوں نے سعوی محلہ عدل کی جانب سے اعلان کردہ آغازِ رمضان کی تاریخوں کی ایک فہرست ترتیب دی ہے جو مسلسل ۲۲ سالوں کا احاطہ کرتی ہے۔ انہوں نے ان پانچ مقامات کو اپنے مطابع کا محور بنایا ہے جہاں رویت ہلال کی شہادتوں کے زیادہ تر دعوے کئے گئے۔ یہ مقامات دوادی، سودی، حرائق، توبک اور دام ہیں۔ ان کے مطابق متذکرہ تفصیلات چھ مختلف مقامی اخبارات "ام القراء"، "البلاد"، "عکاظ"، "المدینة"، "الخبرية" اور "الرياض" سے جمع کی گئی ہیں جو بالاتفاق یکساں ہیں۔ اپنے مطابع میں انہوں نے پانچوں مقامات کے تمام مہینوں کے غروب قمر اور غروب آفتاب کے اوقات کی ایک جدول بھی مرتب کی ہے جو سعوی نظامِ رویت ہلال سے تاوافق افراد کے لئے بخوبی مہیا کرتی ہے۔ راقم نے اس مقالے کی اہمیت کے پیش نظر اسے انتزاعیت کی ویب سائٹ:

<http://articles.adsabs.harvard.edu/full/seri/Obs..0123/000021.000.html>
سے حاصل کر کے اس کا ایک تجزیہ کرنے کی جاہت کی ہے جس میں چاند کی پیدائش اور اعلان کردہ رویت ہلال کی شام کے درمیان وقت کے فاصلے کے علاوہ ہر غروب قمر اور غروب آفتاب میں فرق کی مقدار شارکر کے ایک نقشہ ترتیب دیا ہے جس سے جرأت انگیز تنائی برآمد ہوتے ہیں۔

اس تجزیہ میں اختصار کے پیش نظر صرف مقام "توبک" کی تفصیلات کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیگر متذکرہ مقامات میں غغرب میں واقع ہے۔ اور تحقیقات مغرب میں مشرق کی نسبت رویت ہلال کے زیادہ موقع ہوتے ہیں۔ پہلا کالم میں زیر بحث مہینوں کے چاند کی پیدائش کی تاریخیں اور اوقات دیئے گئے ہیں۔ دوسرا کالم میں رویت ہلال کے اعلان کی شام کو واقع

علیٰ تحقیقی مجلہ فقہ اسلامی شعبان رمضان ۱۴۲۷ھ ۲۵ ستمبر 2006ء

ہونے والے غروب قمر اور غروب آفتاب کے اوقات کا اندراعج کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان اوقات سے بتائیں اخذ کئے گئے ہیں کہ اس شام چاند غروب آفتاب سے کتنے منٹ قبل یا بعد میں غروب ہوا۔ آخری کالم میں چاند کی پیدائش اور اعلان رویت کے درمیان ”مکمل“ فاصلوں کی مقدار تقریباً گھنٹوں میں بتائی گئی ہے۔

نقش آپ سے سامنے ہے۔ اس کے مطابع سے معمولی سمجھ بوجہ کا انسان بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سعودی عرب میں نہایت کم عمر کے وہ باریک بلال، جو سورج ڈوبنے سے پہلے غروب ہو چکے ہوں، کیسے دیکھ لئے جاتے ہیں! اب سے اہم بات یہ کہ تعدد مرتبہ نیا چاند اپنی پیدائش سے بھی کمی گھنٹے قبل دیکھ لینے کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام بتائیں عام افراد کے لئے اگر باعث حیرت ہیں تو سعودی نظام رویت بلال کے بارے میں خوش بھی کے شکار افراد کیلئے چشم کشا!

ان رسمی رساں میں صرف دو تاریخیں ایسی ہیں جن کی شام ماہرین فلکیات کے مطابق رویت بلال ممکن تھی۔ پہلی ۲۶ جنوری ۱۹۶۳ء اور دوسرا ۳۱ مئی ۱۹۸۲ء۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مؤخر الذکر میں کی درست رویت کو یوں غلط کر دیا گیا کہ اس میں کے آخر میں رمضان المبارک (۲۸ جون ۱۹۸۲ء) کی شام حیرت انگیز طور پر شوال کا چاند دکھائی دیے جانے کا اعلان ہو گیا۔ جواز یہ قائم کیا گیا کہ غلطی کے باعث رمضان کے آغاز میں ایک روز کی تاریخ ہو گئی تھی۔ مضمون کے آخر میں اس تاریخ کے فلکیاتی کوائف بھی درج کر دیئے گئے ہیں، جن سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس شام بھی رویت بلال قطعی ناممکن تھی۔

اب نقشہ ملاحظہ فرمائیے۔ واضح رہے کہ یہ تمام اوقات سعودی عرب کے معیاری وقت کے مطابق ہیں جبکہ غروب قمر و غروب نیش اور اس سے اخذ ہونے والے بتائی مقام ”توک“ سے متعلق ہیں۔

بتائی مقام کے اوقات	العلن رویت	غروب قمر کا	غروب نیش	غروب قمر کا	غروب قمر کا	غروب قمر کا
بتائی مقام کے اوقات	العلن رویت	غروب قمر کا	غروب نیش	غروب قمر کا	غروب قمر کا	غروب قمر کا
۰۰-۱۰ (۱۰-۰۰)	۰۰-۲۶ (۲۶-۰۰)	۰۰-۲۶ (۲۶-۰۰)	۰۰-۱۶ (۱۶-۰۰)	۰۰-۱۷ (۱۷-۰۰)	۰۰-۱۸ (۱۸-۰۰)	۰۰-۱۸ (۱۸-۰۰)

۱۳	جیوری ۱۹۹۳ء (۲۲-۲۲)	۱۷-۵۸	۱۷-۳۸	چوری	۱۳ منٹ قبل	۲۰
۱۴	جیوری ۱۹۹۵ء (۰۰-۰۷)	۱۷-۵۰	۱۷-۲۸	چوری	۲۲ منٹ قبل	۲۲
۱۵	دسمبر ۱۹۹۵ء (۰۰-۰۳)	۱۷-۳۲	۱۷-۱۸	دسمبر	۲۵ منٹ قبل	۲۲
۱۶	دسمبر ۱۹۹۶ء (۰۲-۱۳)	۱۷-۳۹	۱۷-۵۰	دسمبر	۱۱ منٹ بعد	۱۲
۱۷	کیم دسمبر ۱۹۹۷ء (۱۹-۱۲)	۱۷-۳۷	۱۷-۱۷	کیم دسمبر	۲۰ منٹ قبل	۱۲
۱۸	نومبر ۱۹۹۸ء (۱۱-۰۲)	۱۷-۳۹	۱۷-۳۲	نومبر	۵ منٹ قبل	۲۰
۱۹	نومبر ۱۹۹۹ء (۱۱-۰۱)	۱۷-۳۲	۱۷-۱۰	نومبر	۳۲ منٹ قبل	۱۰
۲۰	راکتوبر ۱۹۷۰ء (۰۹-۲۸)	۱۷-۵۲	۱۶-۳۸	راکتوبر	۲۵ منٹ قبل	۳۰
۲۱	راکتوبر ۱۹۷۱ء (۱۰-۵۹)	۱۸-۰۱	۱۷-۳۸	راکتوبر	۱۳ منٹ قبل	۱۹
۲۲	راکتوبر ۱۹۷۲ء (۱۱-۰۸)	۱۸-۱۳	۱۸-۰۰	راکتوبر	۱۳ منٹ قبل	۱۹
۲۳	تمبر ۱۹۷۳ء (۱۲-۵۲)	۱۸-۲۶	۱۸-۰۵	تمبر	۲۱ منٹ قبل	۲۶
۲۴	تمبر ۱۹۷۴ء (۱۰-۳۵)	۱۸-۳۸	۱۸-۳۷	تمبر	ایک منٹ قبل	۱۶
۲۵	تمبر ۱۹۷۵ء (۱۹-۱۹)	۱۸-۵۲	۱۷-۳۰	تمبر	۲۷ منٹ قبل	۲۸
۲۶	اگست ۱۹۷۶ء (۱۲-۰۱)	۱۹-۰۳	۱۸-۵۱	اگست	۱۲ منٹ قبل	۵
۲۷	اگست ۱۹۷۷ء (۰۰-۳۱)	۱۹-۱۳	۱۸-۳۶	اگست	۲۸ منٹ قبل	۵
۲۸	اگست ۱۹۷۸ء (۰۲-۰۱)	۱۹-۲۳	۱۹-۳۰	اگست	۷ منٹ بعد	۲
۲۹	جولائی ۱۹۷۹ء (۰۲-۳۱)	۱۹-۲۸	۱۹-۳۹	جولائی	۱۱ منٹ بعد	۲
۳۰	جولائی ۱۹۸۰ء (۰۹-۳۲)	۱۹-۳۳	۱۹-۳۱	جولائی	۷ منٹ بعد	۱۲
۳۱	کیم جولائی ۱۹۸۱ء (۲۲-۰۳)	۱۹-۲۵	۱۹-۱۷	کیم جولائی	۱۸ منٹ قبل	۳
۳۲	جون ۱۹۸۲ء (۱۲-۵۲)	۱۹-۳۲	۱۹-۳۸	جون	۳ منٹ بعد	۲۱
۳۳	جون ۱۹۸۳ء (۰۷-۳۸)	۱۹-۳۱	۱۸-۵۰	جون	۳۱ منٹ قبل	۱۳
۳۴	مئی ۱۹۸۴ء (۱۹-۳۸)	۱۹-۲۶	۲۰-۲۲	مئی	۵۶ منٹ بعد	۶
۳۵	مئی ۱۹۸۵ء (۰۰-۳۱)	۱۹-۱۸	۱۹-۰۳	مئی	۱۵ منٹ قبل	۶
۳۶	مئی ۱۹۸۶ء (۰۱-۱۰)	۱۹-۱۳	۱۸-۵۶	مئی	۷ منٹ قبل	۶

١٠	گھنٹے قبل	منٹ قبل	۱۹_۰۶	۱۸_۳۰	۱۸_۲۷	۱۸_۰۲	۱۸_۲۸
		منٹ بعد	۱۹_۰۰	۱۹_۰۸	۱۸_۱۶	۱۸_۰۱	۱۹_۸۸
۱۲	گھنٹے قبل	۳۷ منٹ قبل	۱۸_۵۲	۱۸_۱۷	۱۸_۰۱	۱۸_۰۰	۱۵_۰۰
۱۳	گھنٹے قبل	۱۳ منٹ قبل	۱۸_۳۸	۱۸_۳۸	۱۸_۲۶	۱۸_۰۲	۱۹_۸۹
		منٹ بعد	۱۸_۳۳	۱۸_۵۸	۱۸_۱۲	۱۸_۰۱	۱۹_۸۷
۲۳	گھنٹے قبل	۳۹ منٹ قبل	۱۸_۳۵	۱۷_۳۶	۱۷_۰۱	۱۷_۲۲	۱۹۹۲ء (۱۶_۲۲)
		منٹ بعد	۱۸_۲۹	۱۸_۲۰	۱۸_۰۱	۱۷_۰۵	۱۹۹۳ء (۱۶_۰۵)
۸	گھنٹے قبل	۱۹ منٹ قبل	۱۸_۱۹	۱۸_۲۰	۱۸_۰۱	۱۷_۳۰	۱۹۹۳ء (۱۷_۳۰)
		منٹ بعد	۱۸_۰۳	۱۸_۲۹	۱۸_۰۱	۱۷_۰۵	۱۹۹۴ء (۱۶_۰۵)
۸	گھنٹے قبل	۱۹ منٹ قبل	۱۸_۱۲	۱۷_۵۳	۱۷_۰۱	۱۷_۲۸	۱۹۹۵ء (۱۰_۱۸)
		منٹ بعد	۱۸_۰۲	۱۸_۱۲	۱۸_۰۱	۱۷_۰۵	۱۹۹۶ء (۱۵_۵۰)
۹	گھنٹے قبل	۳۲ منٹ بعد	۱۷_۵۲	۱۸_۲۵	۱۸_۰۱	۱۷_۲۲	۱۹۹۷ء (۰۷_۲۲)
۲	گھنٹے قبل	۱۷_۳۷	۱۷_۳۷	۱۷_۰۱	۱۹_۵۶	۱۹۹۷ء (۱۹_۵۶)
۸	گھنٹے قبل	۹ منٹ قبل	۱۷_۳۱	۱۷_۳۲	۱۷_۰۱	۰۱_۳۲	۱۹۹۸ء (۰۱_۳۲)
		منٹ بعد	۱۷_۳۲	۱۷_۳۵	۱۸_۱۱	۰۱_۳۲	۱۹۹۹ء (۰۱_۳۲)
۸	گھنٹے قبل	۳۲ منٹ بعد	۱۷_۳۵	۱۸_۰۹	۱۸_۰۱	۰۲_۱۱	۲۰۰۰ء (۰۲_۱۱)
		منٹ بعد	۱۷_۳۵	۱۷_۳۹	۱۷_۰۸	۰۹_۳۰	۲۰۰۱ء (۰۹_۳۰)
۱۹	گھنٹے قبل	منٹ بعد	۱۷_۳۹	۱۷_۵۸	۱۷_۰۱	۱۷_۰۱	۲۰۰۱ء (۰۹_۳۰)

۲۸ ربیعہ مبارک کی شام چاند دکھائی دیتے جانے والے شوال کے چاند کی نکلیاتی

کیفیت۔

۰۶ جون ۱۹۸۳ء (۱۸_۱۸)	۱۹_۱۰	۱۹_۳۲	۱۸_۲۸	۲۸ جون	۱۹_۰۱	۱۸_۰۲	۱۹_۰۱	۱۰_۰۱	۱۱_۰۱
----------------------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

نتیجہ یہ کہ روایت بلاں اس شام بلکہ نرخ آبزرو یہ ری کے مطابق اس سے اگلی شام بھی

نامکن تھی۔